

13 فروری 2018

وہی زبردست مارکیٹ، وہی زبردست جگہ 2018 کے لیے مین اسٹریٹ پر ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن فارمرز مارکیٹ کا شیڈول طے کر دیا گیا ہے

برامپٹن، آن – 2018 ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن فارمرز مارکیٹ بروز ہفتہ، 16 جون کو کھلنے کے لیے متعین کر دی گئی ہے اور لیبر ڈے، بروز ہفتہ، 1 ستمبر تک صبح 7 سے دن 1 بجے تک ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں مین اسٹریٹ پر چلے گی۔

اس کے بعد 2018 ہارویسٹ مارکیٹ شروع ہو گی، جس کا موسم بروز ہفتہ، 8 ستمبر کو معمول سے پہلے شروع ہو گا – لیبر ڈے کے ہفتے کے اختتام پر لمبی چھٹی کے ایک ہفتے بعد۔ اس سال ہارویسٹ مارکیٹ ایک نئے مقام پر لگے گی – روزبلیا پارک (کین ولینز ڈرائیو اور چرچ اسٹریٹ ایسٹ) – اور بروز ہفتہ، 3 نومبر 2018 تک صبح 8 سے دن 1 بجے تک چلے گی۔

ان تبدیلیوں کی وجہ ڈاؤن ٹاؤن ری امیجنگ پراجیکٹ ہے، جو ریجن آف پیل کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ پراجیکٹ پرانے انفراسٹرکچر، مثلاً پانی کے پائپوں اور نکاسی آب کے نالوں کو تبدیل کرے گا اور ڈاؤن ٹاؤن کے مجموعی نظارے میں نئی زندگی بھر دے گا۔ پروجیکٹ کے تحت تعمیرات کے آغاز کی توقع 2018 کے موسم خزاں میں کی جا رہی ہے۔ آغاز کی نظرثانی شدہ تاریخ نے اس سال کی فارمرز مارکیٹ کو 1 ستمبر تک مین اسٹریٹ نارتھ اور ساؤتھ پر برقرار رہنے کو ممکن بنایا ہے۔

تمام فروخت کنندگان کو دعوت دی جاتی ہے

کیا آپ کوئی کسان یا فروخت کنندہ ہیں، جو کسی برامپٹن مارکیٹ میں کچھ فروخت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ سٹی آف برامپٹن کی مارکیٹوں کے لیے درخواستیں بروز پیر، 12 فروری کو کھلیں گی۔ برائے مہربانی ذیل میں مارکیٹ کے انتخابات کا جائزہ لیں اور فروخت کنندگان کی درخواستوں کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن فارمرز مارکیٹ اور آرٹسٹ مارکیٹ - ہر ہفتے کے دن - 16 جون تا 1 ستمبر 2018

- کسان (بشمول روایتی اور نامیاتی)
- خوراک پیدا کرنے والے
- کاریگر
- ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء
- منفرد اشیاء

ماؤنٹ پلیزنٹ ویلج مارکیٹ - ہر جمعرات کے دن - 21 جون تا 4 اکتوبر 2018

- کسان (بشمول روایتی اور نامیاتی)
- کسان (بشمول حلال)
- کاریگر

فارمرز مارکیٹ سے متعلق تازہ ترین خبروں کے لیے www.brampton.ca/events ملاحظہ کریں۔ ڈاؤن ٹاؤن ری امیجنگ کے متعلق معلومات brampton.ca/downtownreimagined پر حاصل کی جا سکتی ہیں۔

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654